

Mat

Chapter 14

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδης ὅ τετραάρχης τὴν ἀκοὴν
میں اُس اُس وقت میں سنا بیروڈیس نے وہ حاکم نے وہ خبر
[G1722](#) [G1565](#) [G3588](#) [G2540](#) [G0191](#) [G2264](#) [G3588](#) [G5076](#) [G3588](#) [G0189](#)

Ἰησοῦ,
یسوع کی
[G2424](#)

ملی۔ اطلاع میں بارے کے عیسیٰ کو انتہاس بیروڈیس حکمران کے گلیل وقت اُس

2 καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής: αὐτὸς
اور کہا اُن سے نوکروں سے اپنے یہ ہے یوحنا وہ بیتسمہ دینے والا وہ
[G2532](#) [G3004](#) [G3588](#) [G3816](#) [G0846](#) [G3778](#) [G1510](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0910](#) [G0846](#)

ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο, αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν
جی اٹھا ہے سے اُن سے مردوں میں سے اور کی وجہ سے اس لیے یہ قدرتیں ہیں
[G1453](#) [G0575](#) [G3588](#) [G3498](#) [G2532](#) [G1223](#) [G3778](#) [G3588](#) [G1411](#) [G1754](#)

ἐν αὐτῷ.
میں اُس میں
[G1722](#) [G0846](#)

آتی نظر میں اِس طاقتیں معجزانہ کی اُس لئے اِس ہے، اٹھا جی سے میں مُردوں جو بے والا دینے بیتسمہ یحییٰ یہ کہا، سے درباریوں اپنے نے اُس پر اِس
ہیں۔

3 Ὁ γὰρ Ἡρώδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην, ἔδησεν αὐτὸν, καὶ ἐν φυλακῇ
وہ کیونکہ بیروڈیس نے پکڑ کر اُس یوحنا کو باندھا اُس کو اور میں قید میں
[G3588](#) [G1063](#) [G2264](#) [G2902](#) [G3588](#) [G2491](#) [G1210](#) [G0846](#) [G2532](#) [G1722](#) [G5438](#)

ἀπέθετο, διὰ Ἡρωδιάδα, τὴν γυναῖκα Φιλίππου, τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
رکھا کی وجہ سے بیروڈیاس کے اُس بیوی کی فلیس کی اُس بھائی کی اپنے
[G0659](#) [G1223](#) [G2266](#) [G3588](#) [G1135](#) [G5376](#) [G3588](#) [G0080](#) [G0846](#)

تھی۔ بیوی کی فلیس بھائی کے بیروڈیس پہلے جو تھا ہوا خاطر کی بیروڈیاس یہ تھا۔ ڈالا میں جیل کے کر گرفتار کو یحییٰ نے بیروڈیس کہ تھی یہ وجہ

4 ἔλεγεν γὰρ «ὁ Ἰωάννης*» αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.
کہتا تھا کیونکہ وہ یوحنا نے اُس سے اُس سے نہیں جائز ہے تجھ کو رکھنا اُس کو
[G3004](#) [G1063](#) [G3588](#) [G2491](#) [G0846](#) [G3756](#) [G1832](#) [G4771](#) [G2192](#) [G0846](#)

ہے۔ ناجائز شادی تیری سے بیروڈیاس تھا، بتایا کو بیروڈیس نے یحییٰ

5 καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην
اور چاہتے ہوئے اُس کو مارنا ڈرا اُس سے بجوم سے کیونکہ جیسے نبی
[G2532](#) [G2309](#) [G0846](#) [G0615](#) [G5399](#) [G3588](#) [G3793](#) [G3754](#) [G5613](#) [G4396](#)

αὐτὸν εἶχον.
اُس کو سمجھتے تھے
[G0846](#) [G2192](#)

تھے۔ سمجھتے نبی اُسے وہ کیونکہ تھا ڈرتا سے عوام لیکن تھا، چاہتا کرنا قتل کو یحییٰ بیروڈیس

6 γενεσίους δὲ γενομένους τοῦ Ἡρώδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς
 سالگرہ-پر اور بونے-پر کے بیروڈیس-کے ناچی وہ بیٹی-نے کے
[G1077](#) [G1161](#) [G1096](#) [G3588](#) [G2264](#) [G3738](#) [G3588](#) [G2364](#) [G3588](#)

Ἡρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρρεσεν τῷ Ἡρώδῃ;
 بیروڈیاس-کی میں اُس درمیان-میں اور اُسند-اُئی اُس کو
[G2266](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3319](#) [G2532](#) [G0700](#) [G3588](#) [G2264](#)

آپا پسند اتنا ناچنا کا اُس کو بیروڈیس ناچی۔ سامنے کے اُن بیٹی کی بیروڈیاس پر موقع کے گرہ سال کی بیروڈیس

7 ὄθεν μεθ' ὄρκου, ὠμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσῃται.
 اس-لیے ساتھ کے قسم-کے وعدہ-کیا اُس سے دینا جو بھی مانگے
[G3606](#) [G3326](#) [G3727](#) [G3670](#) [G0846](#) [G1325](#) [G3739](#) [G1437](#) [G0154](#)

گا۔ دوں تجھے میں گی مانگے تو بھی جو کیا، وعدہ سے اُس کر کھا قسم نے اُس ک۔

8 ἡ δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε
 وہ اور سکھائی-گئی طرف-سے اُس ماں-کے اپنی دے مجھے کہا یہاں
[G3588](#) [G1161](#) [G4264](#) [G5259](#) [G3588](#) [G3384](#) [G0846](#) [G1325](#) [G1473](#) [G5346](#) [G5602](#)

ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ.
 پر تھال-میں وہ سر یوحنا-کا اُس بیٹسمہ-دینے-والے-کا
[G1909](#) [G4094](#) [G3588](#) [G2776](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0910](#)

دیں۔ منگوا میں ترے سر کا والے دینے بیٹسمہ یحییٰ مجھے کہا، نے بیٹی پر سکھانے کے ماں اپنی

9 καὶ λυπηθεὶς ὁ βασιλεὺς; διὰ τοὺς ὄρκους καὶ τοὺς
 اور غمگین-بو-کر وہ بادشاہ کی-وجہ-سے اُن قسموں-کے اور اُن
[G2532](#) [G3076](#) [G3588](#) [G0935](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3727](#) [G2532](#) [G3588](#)

συνανακειμένων, ἐκέλευσεν δοθῆναι.
 ساتھ-بیٹھنے-والوں-کے حکم-دیا دینے-کا
[G4873](#) [G2753](#) [G1325](#)

دیا۔ دے حکم کا دینے اُسے نے اُس سے وجہ کی موجودگی کی مہمانوں اور قسموں اپنی لیکن ہوا۔ دکھ کو بادشاہ کر سن یہ

10 καὶ πέμψας, ἀπεκεφάλισεν <τὸν> Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
 اور بھیج-کر سر-قلم-کیا اُس یوحنا-کا میں اُس قید-میں
[G2532](#) [G3992](#) [G0607](#) [G3588](#) [G2491](#) [G1722](#) [G3588](#) [G5438](#)

گیا۔ دیا کر قلم سر کا یحییٰ چنانچہ

11 καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ,
 اور لایا-گیا وہ سر اُس-کا پر تھال-میں اور دیا-گیا اُس لڑکی-کو
[G2532](#) [G5342](#) [G3588](#) [G2776](#) [G0846](#) [G1909](#) [G4094](#) [G2532](#) [G1325](#) [G3588](#) [G2877](#)

καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
 اور لے-گئی اُس ماں-کے-پاس اپنی
[G2532](#) [G5342](#) [G3588](#) [G3384](#) [G0846](#)

گئی۔ لے پاس کے ماں اپنی اُسے لڑکی گیا۔ دیا دے کو لڑکی اور گیا لایا اندر کر رکھ میں ترے پھر

12 καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταί, αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα, καὶ ἔθαψαν
 اور آ-کر وہ شاگردوں-نے اُس-کے اٹھایا وہ لاش اور دفنایا
[G2532](#) [G4334](#) [G3588](#) [G3101](#) [G0846](#) [G0142](#) [G3588](#) [G4430](#) [G2532](#) [G2290](#)

αὐτόν; καὶ ἔλθόντες, ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.
 اُس-کو اور آ-کر خبر-دی اُس یسوع-کو
[G0846](#) [G2532](#) [G2064](#) [G0518](#) [G3588](#) [G2424](#)

دی۔ اطلاع اُسے اور گئے پاس کے عیسیٰ وہ پھر دفنایا۔ اُسے کر لے لاش کی اُس اور آئے شاگرد کے یحییٰ میں بعد

- 13 Ἀκούσας δὲ, ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον
 اور سن-کر اور وہ یسوع چلا-گیا وہاں سے میں کشتی سے میں ویران
[G0191](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2424](#) [G0402](#) [G1564](#) [G1722](#) [G4143](#) [G1519](#) [G2048](#)
- τόπον κατ' ἰδίαν. καὶ ἀκούσαντες, οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ
 جگہ-میں اکیلے تنہا اور سن-کر وہ ہجوم پیچھے-آئے اُس کے پیدل سے
[G5117](#) [G2596](#) [G2398](#) [G2532](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3793](#) [G0190](#) [G0846](#) [G3979](#) [G0575](#)
- τῶν πόλεων.
 اُن شہروں سے
[G3588](#) [G4172](#)

سے شہروں کر چل پیدل لوگ ملی۔ خبر کی اُس کو ہجوم لیکن گیا۔ چلا جگہ ویران کسی اور ہوا سوار پر کشتی کر ہو الگ سے لوگوں عیسیٰ کر سن خبر یہ گئے۔ لگ پیچھے کے اُس اور آئے نکل

- 14 Καὶ ἐξελθὼν, εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς, καὶ
 اور نکل-کر دیکھا بڑا ہجوم اور ترس-کھایا اور پر اُن پر اور
[G2532](#) [G1831](#) [G3708](#) [G4183](#) [G3793](#) [G2532](#) [G4697](#) [G1909](#) [G0846](#) [G2532](#)
- ἔθεράπευσεν τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν.
 شفا-دی اُن بیماروں کو اُن کے
[G2323](#) [G3588](#) [G0732](#) [G0846](#)

دی شفا کو مریضوں کے اُن نے اُس وہیں آیا۔ ترس بڑا پر لوگوں اُسے تو دیکھا کو ہجوم بڑے کر اُن سے پر کشتی نے عیسیٰ جب

- 15 ὁψίας δὲ γενομένης, προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταί, λέγοντες, Ἐρημός
 شام جب ہوئی اُنے اُس کے پاس وہ شاگرد کہتے-ہوئے ویران
[G3798](#) [G1161](#) [G1096](#) [G4334](#) [G0846](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3004](#) [G2048](#)
- ἐστὶν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς
 ہے وہ جگہ اور وہ وقت پہلے سے گزر-گیا رخصت-دے تو اُن
[G1510](#) [G3588](#) [G5117](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5610](#) [G2235](#) [G3928](#) [G0630](#) [G3767](#) [G3588](#)
- ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα.
 ہجوموں کو تاکہ جا-کر میں اُن گاؤں میں خریدیں اپنے لیے کھانا
[G3793](#) [G2443](#) [G0565](#) [G1519](#) [G3588](#) [G2968](#) [G0059](#) [G1438](#) [G1033](#)

دیہاتوں کے گرد ارد یہ تاکہ دیں کر رُخصت کو اُن ہے۔ لگا ڈھلنے دن اور ہے ویران جگہ [] یہ کہا، اور آئے پاس کے اُس شاگرد کے اُس تو لگا ڈھلنے دن جب لیں۔ [] خرید کچھ لئے کے کھانے کر جا میں

- 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐ χρειάν ἔχουσιν ἀπελθεῖν. δότε αὐτοῖς
 وہ لیکن نے یسوع کہا اُن سے نہیں ضرورت ہے جانے-کی دو انہیں
[G3588](#) [G1161](#) [G2424](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3756](#) [G5532](#) [G2192](#) [G0565](#) [G1325](#) [G0846](#)
- ὕμεις φαγεῖν.
 تم کھانے-کو
[G4771](#) [G5315](#)

دو۔ [] کو کھانے انہیں خود تم نہیں، ضرورت کی جانے [] انہیں دیا، جواب نے عیسیٰ

- 17 οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν ὧδε, εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ
 وہ لیکن کہا اُس سے نہیں ہے یہاں سوائے نہیں پانچ روٹیاں اور
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G0846](#) [G3756](#) [G2192](#) [G5602](#) [G1487](#) [G3361](#) [G4002](#) [G0740](#) [G2532](#)
- δύο ἰχθύας.
 دو مچھلیاں
[G1417](#) [G2486](#)

ہیں۔ [] مچھلیاں دو اور روٹیاں پانچ صرف پاس [] ہمارے دیا، جواب نے انہوں

18 ὁ δὲ εἶπεν, Φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς.
 وہ اور کہا لاؤ مجھے یہاں انہیں
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G5342](#) [G1473](#) [G5602](#) [G0846](#)

آؤ، اے پاس میرے یہاں انہیں کہا، نے اُس

19 καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου, λαβὼν τοὺς
 اور حکم-دے-کر اُن بجوموں-کو کا بیٹھنے-پر اُس پر گھاس-پر اُن لے-کر اُن
[G2532](#) [G2753](#) [G3588](#) [G3793](#) [G0347](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5528](#) [G2983](#) [G3588](#)

πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν,
 پانچ روٹیوں-کو اور اُن دو مچھلیوں-کو دیکھ-کر اُس طرف اُس کی آسمان-کی
[G4002](#) [G0740](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1417](#) [G2486](#) [G0308](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3772](#)

εὐλόγησεν; καὶ κλάσας, ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ
 برکت-دی اور توڑ-کر دیں اُن شاگردوں-کو وہ روٹیاں وہ اور نے شاگردوں-نے
[G2127](#) [G2532](#) [G2806](#) [G1325](#) [G3588](#) [G3101](#) [G3588](#) [G0740](#) [G3588](#) [G1161](#) [G3101](#)

τοῖς ὄχλοις.
 اُن بجوموں-کو
[G3588](#) [G3793](#)

اُس پھر کی۔ دعا کی شکرگزاری اور دیکھا طرف کی آسمان کر لے کو مچھلیوں دو اور روٹیوں پانچ اُن نے عیسیٰ دیا۔ حکم کا بیٹھنے پر گھاس کو لوگوں اور دیں۔ کر تقسیم میں لوگوں روٹیاں یہ نے شاگردوں اور دیا، کو شاگردوں کر توڑ توڑ کو روٹیوں نے

20 καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν; καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν
 اور کھایا سب-نے اور سیر-بوئے اور اٹھایا جو بچا-بوا اُن
[G2532](#) [G5315](#) [G3956](#) [G2532](#) [G5526](#) [G2532](#) [G0142](#) [G3588](#) [G4052](#) [G3588](#)

κλασμάτων, δώδεκα κοφίνους πλήρεις.
 ٹکڑوں-کا بارہ ٹوکریاں بھریں
[G2801](#) [G1427](#) [G2894](#) [G4134](#)

گئے۔ بھر ٹوکری بارہ تو کئے جمع ٹکڑے بوئے بچے نے شاگردوں جب کھایا۔ کر بھر جی نے سب

21 οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ
 وہ اور کھانے-والے تھے مرد پانچ-ہزار تقریباً بغیر عورتوں-کے اور
[G3588](#) [G1161](#) [G2068](#) [G1510](#) [G0435](#) [G5616](#) [G4000](#) [G5565](#) [G1135](#) [G2532](#)

παιδίων.
 بچوں-کے
[G3813](#)

تھے۔ مرد 5,000 تقریباً والے کھانے علاوہ کے بچوں اور خواتین

22 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ
 اور فوراً مجبور-کیا اُن شاگردوں-کو سوار-بونے-کو میں اُس میں اُس کشتی-میں اور
[G2532](#) [G2112](#) [G0315](#) [G3588](#) [G3101](#) [G1684](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4143](#) [G2532](#)

προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύση τοὺς ὄχλους.
 آگے-جانا اُس-سے تک اُس پار-تک جب-تک نہ رخصت-کرے اُن کو بجوموں-کو
[G4254](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4008](#) [G2193](#) [G3739](#) [G0630](#) [G3588](#) [G3793](#)

کرنا رُخصت کو بجوم وہ میں اتنے جائیں۔ چلے پار کے جھیل اور نکلیں آگے کر بو سوار پر کشتی وہ کہ کیا مجبور کو شاگردوں نے عیسیٰ بعد عین کے اس تھا۔ چاہتا

29 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβάς ἀπὸ τοῦ πλοίου, [ὁ] Πέτρος
 وہ اور کہا آ اور اتر-کر سے اُس سے کشتی-سے وہ پطرس
[G3588](#) [G1161](#) [G3004](#) [G2064](#) [G2532](#) [G2597](#) [G0575](#) [G3588](#) [G4143](#) [G3588](#) [G4074](#)

περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
 چلا پر اُن پانیوں-پر اور آیا پاس اُس کے یسوع-کے
[G4043](#) [G1909](#) [G3588](#) [G5204](#) [G2532](#) [G2064](#) [G4314](#) [G3588](#) [G2424](#)

لگا۔ بڑھنے طرف کی عیسیٰ چلتے چلتے پر پانی کر اُتر سے پر کشتی پطرس [آ۔] دیا، جواب نے عیسیٰ

30 βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον «ἰσχυρόν», ἐφοβήθη, καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι,
 دیکھ-کر لیکن اُس بوا-کو زوردار ڈرا اور شروع-کر-کے ڈوبنے
[G0991](#) [G1161](#) [G3588](#) [G0417](#) [G2478](#) [G5399](#) [G2532](#) [G0756](#) [G2670](#)

ἔκραξεν, λέγων, Κύριε, σῶσόν με.
 چلا جہے کہتے-ہوئے خداوند بچا مجھے
[G2896](#) [G3004](#) [G2962](#) [G4982](#) [G1473](#)

بجائیں! مجھے [خداوند، اُنہا، جلا وہ لگا۔ ڈوبنے اور گیا گھبرا وہ تو کیا غور پر بوا تیز نے اُس جب لیکن

31 εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς, ἐκτείνας, τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει
 فوراً اور وہ یسوع-نے بڑھا-کر وہ ہاتھ پکڑا اُس-کو اور کہتا-ہے
[G2112](#) [G1161](#) [G3588](#) [G2424](#) [G1614](#) [G3588](#) [G5495](#) [G1949](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3004](#)

αὐτῶ, Ὁλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας?
 اُس-سے کم-ایمان میں کیا کیوں شک-کیا
[G0846](#) [G3640](#) [G1519](#) [G5101](#) [G1365](#)

تھا؟ [کیا پڑ کیوں میں شک تو اعتقاد! کم [اے کہا، نے اُس لیا۔ پکڑ اُسے کر بڑھا ہاتھ اپنا فوراً نے عیسیٰ

32 καὶ ἀναβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος.
 اور چڑھے-پر اُن-کے میں اُس سے کشتی-میں تھم-گئی وہ بوا
[G2532](#) [G0305](#) [G0846](#) [G1519](#) [G3588](#) [G4143](#) [G2869](#) [G3588](#) [G0417](#)

گئی۔ تھم بوا تو ہوئے سوار پر کشتی دونوں

33 οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῶ, λέγοντες, Ἀληθῶς Θεοῦ
 وہ اور میں اُس سے کشتی-میں سجدہ-کیا اُس-کو کہتے-ہوئے سچ-سچ خدا-کا
[G3588](#) [G1161](#) [G1722](#) [G3588](#) [G4143](#) [G4352](#) [G0846](#) [G3004](#) [G0230](#) [G2316](#)

Υἱὸς εἶ!
 بیٹا ہے
[G5207](#) [G1510](#)

ہیں! [فرزند کے اللہ آپ [یقیناً کہا، کے کر سجدہ اُسے نے شاگردوں موجود میں کشتی پھر

34 Καὶ διαπεράσαντες, ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.
 اور پار-ہو-کر اُنے پر اُس زمین-پر میں گنيسرت
[G2532](#) [G1276](#) [G2064](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1093](#) [G1519](#) [G1082](#)

گئے۔ پہنچ پاس کے شہر گنيسرت وہ کے کر پار کو جھیل

35 καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν, οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην
اور پہچان-کر اُس-کو وہ کے مردوں-نے کے جگہ-کے اُس بھیجا میں سارے
[G2532](#) [G1921](#) [G0846](#) [G3588](#) [G0435](#) [G3588](#) [G5117](#) [G1565](#) [G0649](#) [G1519](#) [G3650](#)

τὴν περιχώρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῶ πάντας τοὺς κακῶς
اُس ارد-گرد-میں اُس اور لائے اُس-کے-پاس سب اُن سے بیماری-سے
[G3588](#) [G4066](#) [G1565](#) [G2532](#) [G4374](#) [G0846](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2560](#)

ἔχοντας,

رکھنے-والوں-کو
[G2192](#)

کے اُس کو مریضوں تمام اپنے نے اُنہوں پھیلائی۔ خبر کی اِس میں علاقے پورے کے گرد ارد نے اُنہوں تو لیا پہچان کو عیسیٰ نے لوگوں کے جگہ اُس جب
کر لا پاس

36 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἄψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου
اور منت-کرتے-تھے اور اُس-سے تاکہ صرف چھوئیں کے کنارے-کو کے پوشاک-کے
[G2532](#) [G3870](#) [G0846](#) [G2443](#) [G3440](#) [G0680](#) [G3588](#) [G2899](#) [G3588](#) [G2440](#)

αὐτοῦ; καὶ ὅσοι ἦσαντο διεσώθησαν.
اُس-کے اور جتنوں-نے چھوا بچ-گئے
[G0846](#) [G2532](#) [G3745](#) [G0680](#) [G1295](#)

ملی۔شفا اُسے چھوا اُسے بھی نے جس اور دے۔ چھونے کو دامن کے لباس اپنے صرف اُنہیں وہ کہ کی منت سے اُس